



جس روزہ دار نہ بھول کر کھا پی لیا و اپنا روزہ مکمل کرے اس اللہ نہ کھلایا اور پلایا

ابوہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: ”جس روزہ دار نہ بھول کر کھا پی لیا و اپنا روزہ مکمل کرے اللہ نہ کھلایا اور پلایا“
[صحیح] [متفق علیہ]

اسلامی شریعت کی بنیاد آسانی اور سہولت پر رکھی گئی ہے حسب طاقت ہی ذمہ داری ڈالی جاتی ہے اور جو شخص استطاعت اور اختیار میں نہ ہو اس پر مواخذہ نہیں ہوتا چنانچہ جس شخص نہ بھول چوک سے رمضان میں یا اس کے علاوہ کسی اور روزہ میں کچھ کھا پی لیا یا ان کے علاوہ کوئی اور ایسا کام کر لیا جو روزہ ٹوٹ جانے کا سبب ہوتا ہے تو اسے چاہیے کہ وہ اپنا روزہ پورا کرے کیونکہ اس کا روزہ صحیح ہے اس لیے کہ ایسا اس کے اختیار سے نہیں ہوا جو شخص انسان بلا نیت بھول کر کرے وہ اس کے روزہ کے لیے کچھ بھی مضر نہیں ہوتی اور اس پر کوئی اثر نہیں ڈالتی بلکہ یہ سب تو اس کے اللہ کی طرف سے ہوا ہوتا ہے جس نے اسے کھلایا اور پلایا

<https://sunnah.global/hadeeth/ur/show/4525>



النجاة الخيرية
ALNAJAT CHARITY

